


تشخیص

داخلے سے پہلے، ہر طالب علم کی ابتدائی تشخیص ہوگی تاکہ اس کی انگریزی کی سطح اور پروگرام کی موافقت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ رسمی اور غیر رسمی جاری تشخیص کے نتائج اساتذوں کو اسباق کا مواد تیار کرنے میں مدد دینے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے طلباء کو ان کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔

رپورٹنگ

GELC اساتذہ ہر ٹرم میں تمام طلباء کی رپورٹیں لکھتے ہیں۔ ہر ٹرم کے اختتام پر اگلی ٹرم میں جانے والے طلباء کو تحریری رپورٹ ملتی ہے اور پروگرام ختم کر کے جانے والے طلباء کو جامع الوداعی رپورٹ ملتی ہے۔ والدین \ اساتذہ انٹرویوز کے دوران ایک پیشہ ور زبانی ترجمان کی مدد سے یہ رپورٹیں والدین کو دی جاتی ہیں اور ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ رپورٹیں ان اسکولوں کے اساتذہ کو بھی بھیجی جاتی ہیں جہاں بچوں کا داخلہ ہوا ہے۔



لاگت

GELC پروگرام پر والدین کا کوئی خرچ نہیں آتا، تاہم اگر والدین اپنے طور پر اپنے بچوں کو پروگرام تک لایا جائے تو ایسی صورت میں کچھ خرچہ آسکتا ہے۔

جی لونگ انگلش

لینگوئج سنٹر

بمقام:

Bell Park North PS

Barton St Bell Park Nth

خط کا پتہ:

PO Box 244

North Geelong 3215

کوآرڈینیٹر:

فون: 52 783 548


موبائل: 0419 870 439



انگلش

لینگوئج

سنٹر



www.gelc.vic.edu.au

گھرانوں کے لئے
کے پروگرام کی
معلومات

تعلیم کی ملٹی کلچرل مددگاریں

(Multicultural Education Aides)

سیکھنے والوں دی گئی ہدایات کی ان کی پہلی زبان میں وضاحت کر کے اور طلباء اور اساتذہ کو ایک دوسرے سے بات چیت میں مدد دے کر MEAS سیکھنے کے تجربے کو افزودہ بناتی ہیں۔

داخلہ

GELC پروگرام میں طلباء کا داخلہ ان کے داخلے کے اسکول کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ GELC میں براہ راست داخلہ نہیں لے سکتے۔ داخلے کی اہلیت مندرجہ ذیل سے مشروط ہے:

- پاسپورٹ یا سفری دستاویزات موجودہ ویزہ

داخلے کا اہل ہونے کے لئے:

- طلباء کی عمر 5 سے 18 سال کے درمیان ہونی چاہئے
- طلباء کو آسٹریلیا کا مستقل رہائشی ہونا چاہئے، یا
- طلباء کے پاس رہائش کا اہل عارضی ویزہ ہونا چاہئے
- طلباء کو آسٹریلیا میں رہتے ہوئے 6 ماہ سے کم عرصہ ہوا ہو (پریپ کے طلباء کے لئے 18 ماہ)

سفر

عموما اہل خانہ انگلش لینگویج سنٹر میں اپنے بچوں کو لاتے اور لے جاتے ہیں۔ GELC آؤٹ ریچ سروسز افسر (GELC Outreach Services Officer) گھر والوں کو بچوں کو لانے اور لے جانے کی دستیاب صورتوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

پروگرام کا خاکہ

GELC میں تدریس اور تعلیم کا مرکز مندرجہ ذیل امور میں بات چیت کی مہارتوں پر ہوتا ہے:

- بولنا اور سننا
- پڑھنا اور دیکھنا
- لکھنا



GELC کا تدریسی عملہ انگریزی بطور اضافی زبان (English as an Additional Language - EAL) کا سند یافتہ ماہر ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ طلباء زبان کی عمومی اور تعلیمی مہارتیں حاصل کریں۔

طلباء کو تفصیلاً پڑھایا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کے کلاس رومز میں کیسے سیکھا جائے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے:

- طالب علم \ استاد کا تعلق
- کلاس روم کے رسم و رواج
- سیکھنے کی ترکیبیں اور مہارتیں

طلباء چھوٹے گروپوں میں کام کرتے ہیں اور کلاس میں طلباء کی عمومی تعداد 13 ہوتی ہے۔ کلاسوں کا تعین طلباء کے تعلیمی سال کے درجے اور انگریزی میں ان مہارت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

GELC پروگرام

GELC پروگرام پرائمری اور سیکنڈری کے نئے آنے والے ایسے طلباء کو آسٹریلیا کے اسکولوں میں پڑھائی کے لئے تیار کرتا ہے جن کا پس منظر انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان ہے۔ مرکزی حکومت اور وکٹوریہ کا اسکولوں کا نظام اس کے لئے فنڈز مہیا کرتے ہیں۔

یہ انگریزی زبان کا ایک پرزور (intensive) پروگرام ہے۔ پرائمری کے طلباء ہفتے میں چار مکمل دن حاضر ہوتے ہیں۔ اسکیڈری کے طلباء ہفتے میں پانچ مکمل دن حاضر ہوتے ہیں۔ طلباء عام طور پر دو ٹرمز میں پڑھتے ہیں۔

مقامات

GELC کے پروگرام تین مقامات پر منعقد ہوتے ہیں: نارٹھ بے کالج (Northern Bay College):

- ویکسفرڈ (Wexford) کیمپس فاؤنڈیشن – تعلیمی سال 8
- ہینڈی اسٹریٹ (Hendy St) کیمپس فاؤنڈیشن – تعلیمی سال 8

نارتھ جی لونگ اسکینڈری کالج تعلیمی سال 7 تا 10

